

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

افضلیتِ خلیفہٴ اول

رضی اللہ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حق کی آواز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رئیس العلماء حضرت علامہ قاضی غلام محمود ہزاروی

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بزمِ عاشقانِ مُصطفى

فہرست

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳	پیش لفظ	۱
۷	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہلسنت کی پہلی دلیل	۲
۹	محبت کی کہانی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔	۳
۱۰	حضرت ابو بکر کی افضلیت پر اہل سنت کی دوسری دلیل۔	۴
۱۱	حضرت جناب محمد و پاک کا فرمان۔	۵
۱۲	حضرت ابو بکر کی افضلیت پر اہل سنت کی تیسری دلیل۔	۶
۱۳	حضرت علی کی کئی فضیلت پر شیعوں کے دلائل اور ان کا جواب	۷
۱۷	حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اہل سنت کی چوتھی دلیل۔	۸
۱۸	شیعوں کو اپنے مدعا پر تیسری دلیل اور اس کا حشر۔	۹
۲۱	حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اہل سنت کی پانچویں دلیل	۱۰
۲۱	شیعوں کے افضلیت حضرت علی کے بارے میں مزید دلائل۔	۱۱
۲۲	فرمان حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔	۱۲
۲۶	فرمان حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی	۱۳
۲۳	اہم اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان افروز بیان	۱۴
۲۳	حق چار بار کی حقیقت۔	۱۵
۲۶	کلام حضرت میاں محمد صاحب۔	۱۶
۲۶	شاہی سکوں پر چار بار	۱۷
۲۷	حدیث پاک کا مضمون	۱۸
۲۸	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں۔	۱۹
۲۹	شیعوں سے اہلسنت کے کچھ سوالات۔	۲۰

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال حضرت علیؑ علیہ السلام کی سی ہے کہ
یہودیوں نے ان سے اس قدر اظہار بغض کیا کہ آپ کی والدہ پر بہتان لگا دیا۔ اور
نصاری نے اس حد تک محبت میں غلو کیا کہ آپ کے متعلق ایسی باتیں کہہ دیں جو آپ
کے لائق نہ تھیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو
قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے۔

اول: میری محبت میں غلو کرتے ہوئے ایسی باتوں سے میری تعریف کرنے والے جو
فی الواقع مجھ میں موجود نہیں۔

دوم: میرے ساتھ بغض و عناد میں اس حد تک پہنچنے والے کہ میری عداوت انہیں
مجھ پر افسوس کرنے پر ابھارے گی۔

مدینۃ العلم سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باب مدینۃ العلم سید العرب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ارشادات کو بغور پڑھو اور تاریخ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو
کہ رافضیوں نے جناب امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
کس قدر غلو سے کام لیا کہ آپ کو خدا تک کہنے سے گریز نہ کیا اور عبد اللہ بن سبا یہودی
منافق کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ائمہ اہلبیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کی طرف وہ کچھ منسوب کیا جسے وہ اپنوں کے سامنے بھی بیان کرنے سے ندامت

محسوس کرتے ہیں اور ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے اور اگر کوئی ان کی ایسی باتوں کی طرف ان کی توجہ کرائے تو شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔

اسی طرح آپ سے عناد رکھنے والے خارجیوں نے (جو کہ آج کل دیوبندیوں نجدیوں و بابیوں اور مودودیوں کے روپ میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں) آپ کو گمراہ کہنے بلکہ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے میں بھی کوئی باک محسوس نہ کی۔

آپ کو اور آپ کے صحیح پیروکار سواد اعظم اہلسنت کو شرک کی زد میں لاتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق واضح نشانہ ہی فرمائی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ جب یہ تمہارے دور میں ظاہر ہوں گے تو ان کا اچھی طرح استحصال کرنا مزید فرمایا۔

لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ لَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا لَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَكْتُبُنَ الْيَمِينَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَعْمًا لِيَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسَاءَ لِمَنْ أَكَلَهُ يَوْمَ ذَلِكَ لَمَطًا
اور امتِ مرحومہ کو درپیش خطرات سے آگاہ فرماتے ہوئے ان مشرک ساز بزم خویش توحید پرستوں سے یوں خبردار فرمایا۔

عَنْ حذيفة بن اليمان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں جن فتنوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہو گا جو قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن کی رونق اس کے

عَنْ حذيفة بن اليمان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں جن فتنوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہو گا جو قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن کی رونق اس کے

لے کر بگڑنے دن نیا انداز اپنا کر، جن القاب و الفاظ کو پہلے تو بہن تصور کرتے تھے آج انہیں الفاظ کا سیل لگا کر اپنے اجتماعات کی رونق بڑھانے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں یہ لوگوں کے روپ میں نبی الی ایک بڑی آفت ہے۔

منہ ونبذہ وراء ظہرہ و سعی
 علی جارہ بالسیف ورمہ
 بالشوک قال قلت یا نبی
 اللہ ایہما اولی بالشوک المرعی
 او الراحی قال بل الراحی بلہ
 چہرے پر عیاں ہونا شروع ہو جائے
 گی اور اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو
 گا تو اللہ تعالیٰ اُسے کسی گنہگار میں
 بتلا کر دے گا تو وہ اسلام کی چادر
 سے نکل جائے گا (جیسے سانپ اپنی

کینچلی سے نکلتا ہے) اور وہ اسے پس پشت ڈال دے گا۔ اور اپنے پڑوسی پر
 تلوار لے کر حملہ کرے گا۔ اور شرک کا فتویٰ و تہمت لگائے گا۔

حضرت حدیف نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیک وسلم ان دونوں میں سے کون
 شرک کا حق دار ہوگا جس پر فتویٰ لگا ہے یا فتویٰ لگانے والا؟ تو سید کائنات صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ شرک کی تہمت لگانے والا خود شرک کا زیادہ حقدار ہوگا۔ دیکھو
 وہ بے گناہ مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے۔

اس حدیث شریف کو پڑھو اور توحید کے نام پر اکٹھنے والی تحریکوں کا جائزہ لو کیا یہ
 لوگ وہی تو نہیں جن کی اس حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے؟ اور ان سے خبردار کیا گیا
 ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آراء ہونے والے خارجی اس
 حدیث کا مصداق ہیں یا نہیں؟

کیا وہ ابن عبدالوہاب مجذبی قرن الشیطان (جسے وہابی نجدی کشافاً لثکلات
 حللاً للمعضلات کہتے ہیں) جس نے سرزمین عرب پر بسنے والے عشاقِ مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ واتباعہ وسلم پر شرک کا فتویٰ لگا کر انہیں تہ تیغ کیا ان کے اموال اموالِ غنیمت
 سمجھ کر لوٹ لیے اس حدیثِ جید کی زد میں آتا ہے یا نہیں؟

ہندوستان میں نجدی وہابی تحریک کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی اور اسکا پیرو مشد
 سید احمد بریلوی ہزارہ سرحد کے سنی حنفی غیر مسلمانوں کو شرک کی آڑ میں شہید کرنے، انکی

جاؤادیں قبضہ میں لینے اور پھراہتیں کے پاکیزہ ہاتھوں انجام کو پہنچنے والے اس حدیث مبارکہ کی رو سے مُشرک قرار پاتے ہیں یا نہیں؟

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں دشمنوں کے متعلق دعا کی۔

اللَّهُمَّ اَعْنِ كُلَّ مُبَغِضٍ اِلَيْهِ

اے اللہ ہمارے متعلق بغض رکھنے والوں اور محبت میں غلو کرنے والوں پر

لعنت فرما۔

لَنَا

ان شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ رافضی اور خارجی افراط و تفریط کا شکار ہیں اور خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب علی المرتضیٰ کا پسندیدہ طریقہ وہی ہے جس پر اہلسنت و جماعت کا مزن ہیں۔ والحمد للہ علی ذلک پیش نظر سالہ افضلیتِ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل چند سوالات کے جوابات ہیں جو ادارہ عنوشیہ رضویہ اور بزم عاشقانِ مصطفیٰ والوں نے حضرت محقق العصر رئیس العلماء شیخ الحدیث والتفسیر اساذی المکرم قاضی غلام محمود ہزاروی دامت برکاتہ کی خدمت میں ارسال کیے تو آپ نے ان کے کافی و دشانی جواب عنایت فرمائے جو کہ مدلل حوالہ جات سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہیں اور کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں تاکہ قارئین بھی اعتراض کرنیوالوں سے کچھ دریافت کر سکیں اور یہ حضرت مدوح کی کمال کرم نوازی ہے کہ ادارہ عنوشیہ رضویہ مصری شاہ اور اسکے معاونین نے جب بھی کوئی مسئلہ ارسال کیا تو آپ نے دیگر مصروفیات کو موقوف فرماتے ہوئے اولین فرصت میں اس کا جواب دیا۔

اللہ تعالیٰ آپکو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو مزید عام تر فرمائے۔ اس کی اشاعت کا اہتمام کرنیوالے اراکینِ بزم عاشقانِ مصطفیٰ ایلینگ روڈ کی اس سعی بلیغ کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اسے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ طہ و تسبیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ظہیر احمد جلالی

جامع مسجد مدینہ مصری شاہ لاہور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - حَامِدًا وَمُصَلِّيًا دُمُسْتَمًا -

سوال نمبر ۱ | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

جواب | اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں اور اہل سنت ان کے دل سے قائل ہیں۔ لیکن اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضیلت کلیہ، مطلقہ کاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور اس کے دلائل یہ ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہل سنت کی پہلی دلیل

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔

تَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

ترجمہ :- دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ (ابو بکر) غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

طرز استدلال | ہجرت کا واقعہ اہلسنت کی تفسیروں وغیرہا کے علاوہ اہل تشیع کی کتابوں

میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ان کی تفسیروں میں سے۔

(۱) تفسیر منہاج الصادقین۔

(۲) تفسیر امام حسن عسکری ص ۱۸۹۔

اور ان کی دوسری کتابوں میں سے۔

(۱) حیات القلوب ص ۳۔

(۲) حملہ حیدری -

(۳) غزواتِ حیدری ص ۶۵ -

(۴) ناسخ التواریخ وغیرہا میں بھی یہ زریں واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ چنانچہ فتح اللہ کاشانی شیعی اپنی تفسیر "منہج الصادقین" میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں -

پس پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبِ پنجشنبہ اور شہر مکہ الم -

ترجمہ :- رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات کو مکہ مکرمہ میں میراؤمین کو اپنی جگہ پر سونے کا حکم دیا اور خود ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد فرمایا -

مذہبِ شیعہ کی کتاب "تفسیر حسنِ عسکری" میں مروی ہے کہ -

جب کفار نے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جبرئیل حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا۔ کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ پیغامِ الہی بھی گوش گزار کیا کہ "اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس پر خطر سفر میں ابو بکر کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔" اب ہم اہل تشیع سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی وہ نور اللہ شوستری کی بات مانیں گے یا کہ اپنے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں گے۔

اہل تشیع کے ایک فاضل فتح اللہ کاشانی تفسیر منہج الصادقین "میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں -

جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں سے کفار کو دیکھا تو انہیں بڑا اضطراب لاحق ہوا عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر! ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیرا اللہ ہے؟

سہ :- یہ فارسی عبارت کا ترجمہ ہے۔

تو یہی شیعوں کی اپنے گھر کی تفسیر کی گواہی۔ اور اس سے بڑی عزت افزائی کا دستور تک نہیں کیا جاسکتا۔

اب قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ اللہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہی غار میں اپنے ساتھ رکھا اور پھر قبر میں بھی اپنے ساتھ اور قریب رکھا ہے۔

یاد رکھیے کہ معیتِ الہی کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان تمام میں اعلیٰ دارِ فرج معیتِ الہی کی وہ قسم ہے جو سید الانبیاء والرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور حضور علیہ السلام والسلام نے اپنے یارِ وفادار تو ان اللہ معنًا فرما کر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔

مجتبٰ کی کہانی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی

ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعر دربارِ نبوت حضرت حسان سے پوچھا کہ کیا تم نے شانِ صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں، انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے یارِ غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے فرمایا سناؤ، میں سُننا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا۔

وَكَانَ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا ، مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ الرَّجُلَا .
ترجمہ :- ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ (ابو بکر صدیق) کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔

حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شعر سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر ایسے ہی ہیں۔

شیعوں سے سوال تم لوگ تو اماموں کو معصوم مانتے ہو یعنی نبیوں اور فرشتوں کا ہم پلہ مانتے ہو تو پھر گیارہویں امام حسن عسکری بقول تمہارے معصوم ہوتے ہوئے کیسے غلط بات لکھ سکتے ہیں تو پھر یا تو ان کی بات تسلیم کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہو جاؤ یا پھر بصورت دیگر اپنے اماموں کو معصوم مانتے کا عقیدہ چھوڑ دو، کیوں کیا خیال ہے تمہیں ان دو میں سے کونسی بات پسند ہے؟

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہلسنت کی دوسری دلیل

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ و دست حق پرست پر بیعت کی تھی اور ان کے پیچھے (ان کی اقتدا میں) نمازیں پڑھی ہیں تاریخ کو جھٹلا کر اس بات سے انکار تو کوئی کر سکتا نہیں۔ اور جس کی بیعت کی جائے وہ تو پیر ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر تو پیر ہوئے اور حضرت علی مرید اب کیسے پیر افضل ہوتا ہے یا کہ مرید۔ شائد شیعوں کے ہاں مرید افضل شمار ہوتا ہو لیکن پوری دنیا کے ہاں تو پیر ہی افضل قرار پایا ہے۔ اور ہاں واضح رہے کہ وہ بیعت ظاہری طور پر تو خلافت کی بیعت تھی لیکن باطنی طور پر معرفت اور پیری و مریدی کی بیعت بھی تھی۔ جیسا کہ ہمارے فاضل حضرت مفتی احمد یار خاں صاحب نے مرآت شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے نمازیں ان ہی کی اقتدا میں ادا کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: **اجعلوا ائمتکم خیارکم** یعنی اپنے امام انکو بنایا کرو جو تم سب میں بہترین ہوں۔ اسی لیے دنیا جانتی ہے کہ امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا شک رہا کہ ابوبکر صدیق حضرت علی مرتضیٰ سے افضل ہیں۔

اعراض اب رہا شیعوں کا یہ خیال کہ حضرت علی خوف کی وجہ سے ان کے پیچھے نمازیں تو پڑھا کرتے تھے لیکن دل سے ان کو مسلمان و صاحب ایمان نہیں سمجھتے تھے۔

(معاذ اللہ)۔

جواب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہے اور اسکے شواہد یہ ہیں۔

اولاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبِ ذوالفقار تھے، اور بہادروں کے بہادر تھے پھر ان کے خوفزدہ ہونے کے کیا معنی، اور خصوصاً دین کے معاملے میں ڈر کر ایک ایسے

شخص کے پیچھے نماز پڑھنا اور پھر ایک دو وقت نہیں سالوں تک پڑھتے چلے جانا جو کہ بقول اہل تشیع (معاذ اللہ) مسلمان تک نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔

ثانیاً جہاں پر مسلمان کا دین سلامت نہ رہ سکتا ہو وہاں سے اس کو ہجرت کر جانے کا حکم اسلام نے دیا ہے تو اگر بالفرض حضرت علی کو جان کے خوف کی وجہ سے ان

کے پیچھے نماز پڑھنا ہی پڑتی ہو تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی تھی۔ اگر دین کو نہیں کر سکتے تھے تو رات کو ہجرت کر جاتے جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی، تو جیسا کہ حضرت علی نے اپنی خلافت کے عہد میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تھا بام مجبوری پہلے ہی مدینہ کو خیر باد کہہ دیتے۔

معاذ اللہ بقول شیعہ حضرات غیر مسلموں کے پیچھے اپنی نمازیں کیوں ضائع کرتے رہے اور پھر ایک دو نہیں ۲۵ سال تک خلفائے ثلاثہ کے پیچھے برابر نمازیں پڑھتے رہے، اب کیا کوئی عقل رکھنے

والا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اسقدر اپنی نماز جیسی محبوب عبادت معاذ اللہ ضائع کرتے رہے ہیں، اور اہل تشیع کا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے خلفاء

ثلاثہ کو مسلمان نہیں بلکہ معاذ اللہ منافق سمجھتے تھے اور اوپر اوپر سے ان کی بیعت کرتے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ حضرت علی کو منافق قرار دینا ہے کیونکہ منافق

وہی تو ہوتا ہے جو دل میں اور بات رکھے اور زبان سے اور کہے اور پھر خصوصاً دین کے معاملے میں ایسا کرے۔

حضرت جناب مجدد و پاک کا فرمان چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ (ترجمہ) اور تعجب ہے کہ اہل بیت کو (شیعہ) منافق کی صفت سے متصف کرتے ہیں کہ تیسرا سال تک صحابہ سے تقیہ کا منافقانہ برتاؤ کرتے رہے۔

اور ان کی تعظیم و تحرم کرتے رہے یہ صفت جو منافقت کی بدترین صفت ہے۔ اہل بیت جیسے پاک نفوس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

تو اب امام ربانی کے اس ارشاد کی روشنی میں شیعہ اہل بیت کے محب کہاں ہوئے بلکہ وہ تو ان کو معاذ اللہ منافق مان کر اور تقیہ کی ان کی طرف نسبت کر کے ان کے بدترین دشمن اور انتہائی گستاخ اور بے ادب ٹھہرے ہیں۔ خدا ہدایت کرے اور امانوں کی طرف تقیہ اور منافقانہ برتاؤ کی نسبت کرنے سے بچائے آمین۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہلسنت کی تیسری دلیل

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔
میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کا حصہ زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ۔
آدمی کا خمیرہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں پر وہ دفن ہوا کرتا ہے؟
اور ان دونوں ارشادوں کو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔

طرز استدلال | اب حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت پر طریق استدلال اس سے اس طور پر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے اسی حجرے میں دفن ہیں جو کہ ریاض الجنۃ ہے، تو پھر یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں بلکہ ایک چشم دید حقیقت کھنہری کہ حضرت ابو بکر یقیناً جنتی اور جنت کے باغ میں مدفون ہیں۔

اور پھر اس سے یہ بھی واضح کھنہرا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خمیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کا ہے، جیسا کہ حضور کے باکل ساتھ مدفون ہوئے ہیں۔ اور

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بلاشبہ افضل عالم ہیں تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کے متصل بعد افضل عالم اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق سب سے افضل محض رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی چاہے وہ کتنا بھی بڑا اور صاحبِ فضیلت کیوں نہ ہو ان دو ہستیوں جیسا نہیں ہے۔

یہ تو کچھ دلائل تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متصل بعد حضرت ابو بکر صدیق اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسرے سب حضرات پر فوقیت اور برتری ثابت ہوتی ہے۔ اور ابھی اس مسئلہ پر بہت سے دلائل باقی ہیں۔ لیکن اب ہم شیعوں کے حضرت علی کی کئی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔

حضرت علی کی کئی فضیلت پر شیعوں کے دلائل اور ان کا جواب

دلیل ۱۔ حضرت علی نے نبی کریم کی امداد کی ہے۔ لہذا وہ سب سے افضل ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جواب

لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَلَا يَخْتَفِرُ عَدَاةُ اللَّهِ الْحَسَنَىٰ

آلایہ

ترجمہ:- تم میں سے کوئی برابر ہی نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے (راہِ خدا میں) مال خرچ کیا اور جنگ کی، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا (دیئے تو) سب (صحابہ کرام) کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی (جنت دینے) کا۔

۱۷۔ پارہ ۲۷ سورہ الحدید آیت ۷۱۔

تفسیر | اس آیت میں ان مہاجرین و انصار صحابہ کے متعلق زبان قدرت یہ اعلان فرما رہی ہے۔ اُولَئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً، ان کا درجہ بڑا اُوچا ہے، ان کا

مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیاں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی توصیف فرما رہا ہے، قرآن پاک ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔

یہاں پر علمائے تفسیر نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ

میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی اور اس کو آگے سے باندھا ہوا تھا۔ جبریل امین آئے اور عرض کیا۔

ترجمہ :- اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابوبکر نے ایسی عبا

پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بچھیرا گیا ہو اسے دکانٹوں کے ٹن لگا رکھے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبریل

نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابوبکر کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کیا یہ اس فقر و تنگدستی پر خوش ہیں یا ناراض، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

حضرت صدیق کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا، اس پیکر تسلیم و رضانے کتنا پیارا جواب دیا عرض کیا، میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں اپنے

رب سے راضی ہوں۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تو مجھ پر راضی ہے، یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت جبریل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اُس خدا کی قسم، جس خدا نے

آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تمام حاملین عرش اس قسم کی عبا میں پہنے ہوئے ہیں یعنی ان فرشتوں کا لباس بھی ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابوبکر کا اور سب نے حضرت ابوبکر

کی طرح کانٹوں کے بٹن لگا رکھے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کے اس یار نے کیا ہے اسی
دیکھا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس حد تک حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا
اعتراف اس طرح فرمایا کہ

سب کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا
اس کے احسان کا بدلہ قیامت میں دوں گا۔

دلیل نمبر ۲ | شیعوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت علیؑ نور ہیں۔

ویسے تو نور و معرفت جملہ صحابہ و ائمہ اہل بیعت کو کما حقہ حاصل ہے لیکن
خصوصیت کے ساتھ حضرت علیؑ کے نور ہونے کی کیا دلیل ہے، تو اگر اپنے

اس دعوے پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو ذرا پیش کرو اور جہاں تک حضرت ابو بکر
کا تعلق ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ صاحبہ کو غیب سے یہ آواز آئی تھی۔
ترجمہ :- اے اللہ کی سچی بندھی تجھے مُترَدہ ہو جس آزاد بچے کا آسمانوں میں اس کا نام
صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ روایت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس اقدس
میں بیان کی، اور جب بیان کر چکے تو جبرئیل امین حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی "ابو بکر نے بیح
کہا اور وہ صدیق ہیں۔"

امام عبد الوہاب شمرانی "الیواقیت و الجواہر" میں فرماتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا۔

۱۔ :۔ تفسیر قرطبی مطبوعہ بیروت لبنان۔ جلد ۱، ص ۲۴۔ و دیگر کتب تفسیر و تاریخ
وغیرہ۔

۲۔ :۔ حدیث و ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

۳۔ :۔ یہ حدیث عوالی الفرش الی معالی العرش میں ہے اور اس سے امام احمد غلامی نے شرح صحیح بخاری میں ذکر کی۔

کیا تمہیں دُورِ دین یاد ہے۔

عرض کی جاں یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ اُس دن یعنی روز الست میں سب

سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی بلای (یعنی ہاں) فرمایا تھا۔

ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ۔ بالجلہ صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز الست سے روز ولادت اور روز ولادت یعنی خود اپنے روز ولادت

سے روز وفات تک اور روز وفات سے ابد الابد تک سردارِ مسلمین ہیں بغرضیکہ حضرت

ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورانیت میں کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ فائق ہیں۔ یہ نہی سیدنا مولیٰ

علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام

اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے دست اقدس میں صدیق کا ہاتھ

لیا اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمرؓ کا ہاتھ لیا اور فرمایا ہذا تبعث یوم القیامت۔

یعنی ہم قیامت کے روز یہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔

امام اہلسنت سیدنا امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

ابوبکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ رضا سے منظور رہے ہیں، اور محدث ابن عساکر امام زہری

تلمیذ (شاگرد) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صدیق کے

فضائل سے ایک یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہ ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مؤحد ہی تھے یہ

اور امام سیوطی جنکو ۲۲ مرتبہ بقول فیض الباری شرح بخاری اور ۷ دفعہ بقول

دیگر حضرات بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اپنی

کتاب ”خصائص لکبری“ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے

۱۷ :- ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول ص ۱۱۱ -

۱۸ :- ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول ص ۱۱۱ -

چار یاروں کے نام عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہلسنت کی چوتھی دلیل

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے حضرت ابوبکر پر فضیلت دی تو میں اسکو ۸۰ کوڑے افترا پر دازی کی حد لگاؤں گا۔

آپ کے اس ارشاد کو بہت سے حضرات نے نقل کیا ہے اور اس وقت میرے سامنے تفسیر قرطبی مطبوعہ بیروت کی جلد ۱ کھلی پڑی ہے اس کے ص ۲۴ پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

یونہی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف غایۃ التحقیق میں امام ابن حجر مکی المتوفی ۹۰۴ھ کی کتاب الصواعق المحرقة سے نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں کہ

اس مذکورہ ارشاد حیدری کو آپ سے انتہی سے زیادہ حضرات نے نقل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ

بعض منصف مزاج شیعوں جیسا کہ محدث عبد الرزاق نے کہا ہے کہ میں تو حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی مرتضیٰ پر فوقیت و فضیلت اس لیے دیتا ہوں کہ میرے آقا حیدر کرار نے یوں ارشاد فرمایا ہے اب میں ان سے محبت و عقیدت کا دعویٰ بھی کروں لیکن اعتقاد ان کے اس ارشاد مذکور کے خلاف رکھوں تو میرے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہو گا۔

۱۔ ترجمہ "خصائص" ص ۲۵ ج ۱۔

۲۔ غایۃ التحقیق تصنیف اعلیٰ حضرت بریلوی ص ۱۵۔

شیعوں کی اپنے مدعا پر تفسیری دلیل اور اس کا حشر

دلیل نمبر ۳ حضرت علیؑ شہرِ خدا ہیں۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ سے افضل ہیں۔

جواب

آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے کسی نے کہا کہ آپ، آپ نے فرمایا، میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑوں سے لڑا ہوں لیکن مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ صدیق پھر آپ نے فرمایا کہ جنگِ بدر کے روز ایک پھپر کے نیچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے اور کفار کا زیادہ زور اسی طرف تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ کون بٹھیرے تاکہ کفار کو آپ کی طرف بڑھنے نہ دے تو ہم میں سے ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔

جب کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لپکتے تو حضرت ابو بکر صدیق ان پر ٹوٹ پڑتے اور مار مار کر ان کو بھگا دیتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتداء اسلام میں بھی جب قریش نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تھا تو ہم سب دیکھ رہے تھے مگر ہم میں سے کسی کو قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق وہاں اڑ کر پہنچ گئے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قریش پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر انہیں بھگاتے جاتے تھے۔

دلیل نمبر ۴ شیعوں کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت علیؑ بھائی ہیں، لہذا افضل ہیں۔

جواب تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ دیکھئے حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ابوبکر و عمر میرے کان اور آنکھیں ہیں۔

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں اور دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں تو آسمان میں میرے
وزیر جبریل و میکائیل اور زمین میں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔

دلیل نمبر ۷ شیعوں کی پانچویں دلیل کہ حضرت علی نے حضور پاک کو اپنے کندھوں پر
اٹھایا تھا۔ لہذا وہ افضل ہیں۔

جواب یہ غلط ہے کہ حضرت علی نے حضور پاک کو کندھوں پر اٹھایا تھا بلکہ صحیح

یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے اندر جو بت اُونچے رہ

گئے تھے حضور پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر ان بتوں

کو اتار دو۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں فرمایا علی تم میرا بوجھ

سہار نہ سکو گے لہذا تم میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ کام انجام دو۔ اب اس سے تو

الٰہی حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ کے ارشاد کے

مطابق حضرت علی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن ہجرت

کی رات حضرت ابوبکر نے حضور پاک کو اٹھایا تھا تو اس سے حضرت ابوبکر کی حضرت علی کے مقابلے

میں افضلیت ثابت ہوئی۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

دلیل نمبر ۸ شیعوں کی چھٹی دلیل کہ حضرت علی کی اولاد امام ہیں۔

حضرت ابوبکر صدیق خود بھی امام اور ان کی اولاد بھی امام ہے۔ چنانچہ

جواب حضرت ابوبکر کے پوتے امام قاسم امام کہلاتے ہیں اور نقشبندی حضرات

۱۔ الصواعق المحرقة ص ۷۷۔

۲۔ جامع ترمذی شریف جلد ۲۔

کے شجرہ طریقت میں حضرت سلمان فارسی کے بعد ان ہی کا اسم گرامی آتا ہے، اور حضرت ابوبکر تو ایسے امام ہیں کہ حضرت علی کے بھی امام ہیں اور ظاہر و باطن میں ان کے امام ہیں کہ ظاہر میں حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور باطن میں نماز جیسی عبادت رُوحانی اُنکے پیچھے ادا کی تھی اور حضرت ابوبکر باطن میں حضرت علی کے مُرشد بھی تھے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس وقت یہ بیعت ظاہری و باطنی دونوں طرح پر کی جاتی تھی اور رُوحانیت حضرت علی کی اولاد کا امام ہونا تو ان تمام حضراتِ ائمہ اہلبیت کے اسماء گرامی قرآن و حدیث میں تھوڑے ہی آئے ہیں بلکہ احادیث مبارکہ میں صرف بعض کے فضائل مروی ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے، یا کہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے۔ عزیزیکہ ان تمام مشہور بارہ اماموں کو بھی ارشادات نبویہ میں لفظ امام کے ساتھ تو یاد نہیں فرمایا گیا۔ تو اب اس سے حضرت علی کی حضرت ابوبکر پر فضیلت کیسے ثابت ہو جائے گی۔

دلیل نمبر ۱ شیعوں کی ساتویں دلیل کہ تمام ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔
جواب یہ کہنا کہ تمام ولی حضرت علی سے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ اپنی نسبت ہوتی ہے بلکہ جن حضرات اولیاء اللہ کی نسبت فیض حضرت علی کی طرف سے وہ حضرات بھی خلفائے ثلاثہ سے مستفید و مستفیض ہیں جیسا کہ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمۃ کی زیادہ تر نسبت نسب اور طریقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ہے لیکن آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ نے بھی مجھے رُوحانی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں فیض پہنچایا ہے۔

اور اگر ولایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاص عہدہ اور مقام تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے ان کی جزوی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ کلی اور کلام تو کلی فضیلت میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض جزوی فضیلتوں کے تو اہل سنت قائل ہیں، تو پھر یہ مسئلہ متنازعہ ہے، یہی نہیں دلیل ایسی پیش کرو کہ جس سے تمہارے عقیدے اور دعوے کے مطابق ان کی کلی فضیلت ثابت ہو۔

دلیل نمبر ۱ شیعوں کی آٹھویں دلیل کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اس لیے حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے۔

جواب پہلے تو اس سے کوئی خاص برتری ثابت ہی نہیں ہوئی در نہ تم کیا کہو گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہوئی اور کیا حضرت علی اس وصف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے ہیں اور اگر اس فضیلت کو تقسیم بھی کر لیا جائے تو پھر یہ فضیلت ہوگی اور ہمارا کلام انصافیت میں ہے نفس فضیلت میں نہیں اور انصافیت سے کیا مراد ہے یہی کہ اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و جاہ والا ہونا اسی کو کثرتِ ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ شیخین یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کثرتِ ثواب و نفع اسلام و مسلمین میں سب سے بڑھ کر ہیں۔

اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف "المستند المعتمد" میں فرماتے ہیں کہ "انصافیت کثرتِ ثواب، قربِ خداوندی اور بارگاہِ ایزدی میں عزت سے عبارت ہے۔"

نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی امامہ دختر زینب و عمر و بن العاص بھی تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی تھی تو پھر یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مخصوص فضیلت نہ رہی۔ اور اگر بالفرض ان کی مخصوص فضیلت ہو بھی جب بھی اہلسنت پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے میں پھر ایک جزوی فضیلت ہوگی اور اس میں تو کلام ہی نہیں کیونکہ اہل سنت بعض جزوی فضیلتوں کے صرفت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے قائل ہیں، مگر مسئلہ متنازعہ انصافیت کلیہ ہے۔ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کو حاصل ہے۔

تو یہ تھا شیعوں کے انصافیت علی کے مسئلہ میں بھی بعض دلائل کا جواب، اور اب

میں اہل سنت کی طرف سے افضلیت ابو بکر صدیق پر پانچویں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ شیعوں کے اس مسئلہ میں بعض دوسرے دلائل کا جواب اسی کے ضمن میں آجایگا۔

افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اہل سنت کی پانچویں دلیل

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آٹھ روز تک نمازیں پڑھائیں اور امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ۔

یہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل، خلافت کے سب سے زیادہ حقدار، اور امامت کے سب سے زیادہ لائق ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔

شیعوں کے افضلیت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید دلائل

اب شیعہ کے مسئلہ افضلیت علی میں یہ دلائل کہ۔

دلیل نمبر ۹ حضرت علی نے تیسرے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا،
دلیل نمبر ۱۰ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔

دلیل نمبر ۱۱ وہ اہل بیعت میں شامل ہیں،

دلیل نمبر ۱۲ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑ کر جانا ہوں اور

دلیل نمبر ۱۱ کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوا اور عرش سے برات آئی۔ وغیرہ بے سواد میں کیونکہ اگر ان باتوں کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ابوبکر وغیرہ پر افضلیت کلیہ حاصل ہو گئی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حین حیات یہ ارشاد نہ فرماتے کہ:۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔

اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بلکہ خود حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو اب حضرت ابوبکر کی افضلیت کلیہ کا مسئلہ بالکل نوابت اور واضح ہو گیا اب اس میں کسی شک و شبہ کی مجال نہ رہی، ورنہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے علم کی زیادتی کا دعویٰ کرنا لازم آتا ہے، معاذ اللہ۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں

حضرت ابوبکر کی امامت کے لیے تخصیص فرمانا اور اس میں آنحضرتؐ کا مبالغہ فرمانا اہل سنت و جماعت کے لیے ایک واضح دلیل ہے، ان کی تقدیم خلافت پر جبکہ دوسرے حضرات کے علاوہ خود حضرت علی بھی اس موقع پر موجود تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق ہی کو مخصوص فرمایا اور آگے بڑھایا یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ:-

اللہ کے رسول نے جب آپ کو آگے کیا ہے تو اب دوسرا کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔

اور ایک روایت کتاب اسد الغابہ میں بروایت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ -

میں بھی وہاں پر حاضر تھا اور میں تندرست تھا بیمار بھی نہ تھا تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو مجھے امامت کرانے کا حکم دیتے لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امامت کرانے کا حکم دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مسئلہ میں ہم اسی شخص یعنی حضرت ابوبکر کے خلیفہ بلافضل ہونے پر راضی ہو گئے جس پر دین کے معاملے میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوئے تھے بلکہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان فروریان

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تفضیل کا عقیدہ یعنی حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل جاننے کا عقیدہ ایک ایفونی یعنی بیٹھی آدمی (ہضم کھانے والے) کی بُرائی سے زیادہ بُرا ہے یہ

حق چار بار کی حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

وعد اللہ الذین آمنوا منکم لہ الآیہ

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت چاروں اماموں (خلفاء) کی امامت پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس سے حق چار بار کے الفاظ کا صحیح ہونا ثابت ہوا۔

امام قرطبی اسی آیت کے تحت تخریر فرماتے ہیں کہ حضرت صحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی کی خلافت کو شامل ہے اور قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے

۱۵ :- ترجمہ مدارج النبوت جلد ۲ ص ۶۷۹ - ۱۶ :- ملفوظات العظمیٰ حضرت بریلوی ص ۴۲
حقتہ چہارم - ۱۷ :- پارہ ۱۸ سورۃ نور رکوع ۷ -

میں کہ یہ آیت مذکورہ بالا چار خلیفوں کی امامت (خلافت) پر دلالت کرتی ہے۔
 دیکھئے اس آیت کے تحت سب نے چار یاروں کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔
 جب ہی تو ہم کہا کرتے ہیں۔ حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ ان چاروں کی بڑی ہے
 بہار۔ ان کے دشمن پر خدا کی مار۔ ان کے دوستوں کا بیڑا پار، ۔۔۔
 جن کا ڈنکا بچ رہا ہے چار سو لیل و نہار وہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار یار
اعترض اب بعض فسادی ”حق چار یار“ پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے یار یعنی صحابہ صرف چار ہی تو نہیں تھے پھر ”حق سب یار“
 کہا کر ”حق چار یار“ کیوں کہا کرتے ہو۔

جواب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ پنجتن پاک کیوں کہا کرتے ہیں کیا
 صرف یہ پنج تن پاک تھے اور معاذ اللہ باقی پلید، نہیں ایسا نہیں، لیکن بات
 دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی تخصیص کسی خاص اہمیت کے پیش نظر ہوا کرتی ہے
 تو ”حق چار یار“ اور پنجتن پاک کی تخصیص اسی خاص اہمیت کے پیش نظر کی جاتی ہے۔
 ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں کی تعداد بھی چار سے زیادہ تھی اور وہ سبھی اور
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیویاں سبھی پاک تھے کہ آیت تطہیر
 اصل میں اُتری ہی پاک بیویوں کے حق میں تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک کے سیاق و سباق
 (آگے پیچھے کے الفاظ) سے مفہوم ہوتا ہے۔

اعترض نمبر ۲ حضرت ابو بکر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر تھے اور سسر کو یار
 کہنا تو بے ادبی ہے۔

جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لیے
 ایک خلیل (یار) ہوتا تھا اور سنو و آگاہ رہو کہ میرا خلیل یعنی یار

ابو بکر ہے بلکہ

اب بولو یہاں پر کیا کہو گے۔

حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کہتے ہیں

چار یار اس کے ہیں چاروں خاص حق ساری امت پر وہ رکھتے ہیں سبق
ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دوست پیغمبر کے اور حق کے ولی سہ

تھڑھیاں محمد صابنی کتاب "سیف الملوک" میں فرماتے ہیں۔

پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جہناندے ثانی اشین ازہمانی لغار
باردو جافار دق عمری عدل کتیا جس جھڑکے اس شیطان رحیم رُلیا پتھے اندر پھڑکے
شب بیدار غنی سی تریجا جامع جو قرآنی عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی
چوتھیا یار پیارا بھائی خاصہ دل دا جانی دُل دل دا اسوار علی ہے حیدر شیر حقتانی

شاہی سکوں پر چار یار سنی سلاطین اسلام کو عقیدہ خلافت راشدہ اور کلمہ اسلام لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ کے تحفظ کا اتنا دینی احساس تھا کہ انہوں نے
اپنے شاہی سکوں کے درمیان کلمہ طیبہ اور ارد گرد ابو بکر، عمر، عثمان، علی چار خلفائے راشدین
کے نام کندہ کیے تھے۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کا سکہ بھی اسی طرح کا تھا۔
علاوہ ازیں شاہجہان بادشاہ کے سکے پر کلمہ طیبہ اور چار یار کے نام کندہ تھے، اور

۱۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۵۲۵) و سواعن محرقہ ص ۱ و سطلانی شرح بخاری جلد ۲

۲۔ (فتح الباری جلد ۱ ص ۱۴) ۳۔ (کلیات امدادیہ)

۴۔ آئین اکبری جلد اول ص ۱۰۱۔

شیر شاہ سُوری کے سکتے پر سبھی کلمہ طیبہ اور چار یاروں کے نام کندہ تھے۔
 اور اہلسنت کی مساجد میں یہ شعر لکھنے کا رواج قدیم سے چلا آ رہا ہے
 چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر
حدیث پاک کا مضمون حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ إِخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ ۝
ترجمہ :- بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو تمام جہان
 والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان سے میرے لیے چار کو منتخب کیا گیا ہے۔ ابو بکر
 عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر میرے صحابہ میں ان چاروں کو افضل قرار دیا ہے۔
 اور میرے سب صحابہ فضیلت مآب اور اصحاب خیر ہیں۔
 اب اس حدیث میں چار یارانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر خصوصیت سے
 فرمایا گیا ہے، اور دیگر حدیثوں میں خصوصی طور پر ان صحابہ کرام کو قطعی جنتی قرار دیا گیا ہے۔
 جنگِ عسکرہ مؤثرہ کہتے ہیں۔
 دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اللَّهُ أَتَىٰ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ أَتَىٰ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غُرَضًا مِنْ
 بَعْدِي فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ فَبِحُبِّي أَحْبَبَهُمْ ۝
ترجمہ :- پوری حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے۔

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے
 ڈرو۔ انہیں طعن و تشنیع کا ہدف نہ بنالینا۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری
 محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض کے

۱۔ اردو دائرہ المعارف زیر اہتمام والنش گاہ (یونیورسٹی) پنجاب لاہور جلد ۱۱ ص ۸۸۴۔
 ۲۔ ترجمہ ملازح النبوت جلد اول ص ۵۲ زیر عنوان آنحضرت کے صحابہ کی تعظیم۔

باعث ایسا کرتا ہے جس نے انہیں اذیت دی اُس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اور جو ایسا کرتا ہے (عذاب میں) پکڑ لیا جاتا ہے بلکہ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں

اصول کافی جو فرقہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔
ترجمہ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کے قریب تھی اور حضرت خدیجہ کے بطن (پیٹ) سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔

بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب اور اُمّ کلثوم،
 بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ علیہا السلام،
 فرقہ شیعہ کی دوسری کتاب ”حیوۃ القلوب“ میں علامہ باقر مجلسی رقمطراز ہیں،

ترجمہ۔۔ قُرب الاسناد میں معتبر سند سے حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے بطن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔ طاہر، قاسم، فاطمہ، اُمّ کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
 کتب شیعہ کی ان روشن تصریحات کے باوجود جو لوگ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ خاندان نبوت سے ان کی بے مہری اور بے مروتی محتاج بیان نہیں۔

حضرات شیعہ نے حال ہی میں اہل سنت پر متعدد سوالات کیے ہیں جن کے جوابات ہم نے بزم عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ادارہ غوثیہ رضویہ لاہور کی

فرمائش پر لکھے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی شیعہ حضرات سے کچھ سوالات کر کے دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

شیعوں سے اہل سنت کے کچھ سوالات

سوال نمبر ۱ حضرت ابو بکر صدیق مولیٰ علی کے امام ہیں جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس پر کتب شیعہ گواہ ہیں حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

- ۱۔ احتجاج طبرسی مطبوعہ نجف اشرف صفحہ ۶۰۔
- ۲۔ حق الیقین مطبوعہ تہران ص ۲۲۱۔
- ۳۔ ضمیمہ ترجمہ مقبول مطبوعہ لاہور، ص ۴۴۵۔
- ۴۔ جلد العیون مطبوعہ تہران، ص ۱۵۰۔

سوال نمبر ۲ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں جن کے مبارک ہاتھوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ کتب شیعہ کے حوالے ملاحظہ ہوں۔

- ۱۔ احتجاج طبرسی ص ۵۴۔
- ۲۔ حق الیقین ص ۱۹۱۔
- ۳۔ سنج البلاغہ حصہ دوم مطبوعہ لاہور ص ۲۸۶۔
- ۴۔ کتاب الرد ص ۱۵۰۔

- ۵۔ فروع کافی جلد سوم ص ۲۳۹، ایضاً ص ۲۲۱۔
- ۶۔ تاریخ روضۃ الصفا جلد دوم مطبوعہ لکھنؤ ص ۲۲۰۔
- ۷۔ جلاء العیون اردو ص ۱۵۴۔

سوال نمبر ۳ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فرمایا کہ ”میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔“

سوال نمبر ۴ حضرت ابو بکر سے حضرت علی کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام پر علی المرتضیٰ شہید خذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ جو میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کئی بے دنیوں کو جہنم داخل کرتا ہوا شہید ہوا۔ ملاحظہ ہو کتب شیعہ کی گواہی۔

۱۔ جلاء العیون ص ۴۱۴۔

۲۔ روضۃ الشهداء ص ۲۶۲، ایضاً ۲۱۹۔

اب شیعہ حضرات بتلائیں کہ وہ ان اپنی کتابوں کی گواہی کے بارے میں

کیا کہتے ہیں؟

سوال نمبر ۵ غوث زمانہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف لطیف ”تقصیہ مابین سنی و شیعہ“ ص ۱۹ میں لکھتے ہیں

حضرت ابو حفص نے فرمایا کہ ”بعد از پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں۔“ اب شیعہ حضرات بتلائیں کہ وہ پیر صاحب کی اس تحریر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

سوال نمبر ۶ موجودہ قرآن شریف کے بارے میں شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں سو اگر اس کو صحیح قرآن پاک تسلیم کرتے ہیں تو ان سے سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ تو

مصحف عثمانی ہے جس کے جامع حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلیفہ سوئم ہیں تو کیا شیعہ ان کو مومن اور خلیفہ برحق مانتے ہیں سو اگر مانتے ہوں

تو پھر شیعہ مذہب باطل ہو گیا اور اگر یہ نہ مانیں جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے تو پھر ان سے سوال یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کے جمع کردہ قرآن پر کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اس میں کمی و بیشی نہیں کی ہوگی جو کہ بقول تمہارے مومن ہی نہیں اور (معاذ اللہ) بقول تمہارے ظالم و غاصب ہے۔ اور اگر شیعہ اس قرآن کو کتابِ الہی نہیں مانتے جیسا کہ شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی ایرانی کے صفحہ ۱۱ پر لکھا ہے کہ ستیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن نختہ گز کا ہے، تو پھر ان سے سوال یہ ہے کہ تمہارا وہ قرآن کہاں ہے اور اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ غار میں امام کے پاس ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ تم لوگ قرآن کے بغیر کیسے اسلامی زندگی گزار سکتے ہو جبکہ اللہ کی آخری کتاب ہی بقول تمہارے تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ جواب دو۔

سوال نمبر ۱ یہ نئی ایجاد کردہ مسلمانوں سے مختلف اذان جو تم پڑھا کرتے ہو اسکو اپنی کتابوں کے حوالے سے اپنے امام اول حضرت علی مرتضیٰ، امام دوم امام حسن، امام سوم امام حسین، امام چہارم امام زین العابدین امام پنجم امام باقر، امام ششم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی نسبت سے تم لوگ جعفری کہلاتے ہو ان ائمہ حضرات میں سے کسی بھی امام سے یہ ثابت کرو کہ انہوں نے اس قسم کی اذان پڑھوائی یا اس کی تعلیم فرمائی تھی۔

سوال نمبر ۲ تمہارے خیال کے مطابق ماتم کرنا بہت بڑی نیکی اور کارِ ثواب ہے۔ اب بتاؤ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو کیا حضور کو (معاذ اللہ) امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم سمجھتے ہو، محرم کے عشرہ میں تو تم نکاح کے صرف ایجاب قبول کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہو جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال والے دن تم لوگ ڈھول بجانے کو بھی برا نہیں خیال کرتے ہو۔ اور اگر نبی زندہ ہیں اس لیے ان کا ماتم نہیں کرتے ہو تو پھر شہید بھی بموجب ارشاد قرآن یقیناً زندہ ہیں پھر ان کا ماتم کیوں کرتے ہو۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی ہے کہ تمہارے امام خمینی نے ۱۹۸۴ء میں یہ اعلان کیا تھا جو کہ ایران کے علاوہ پاکستان کے اخبارات

جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوا کہ یہ تعزیہ کی رسم باطل فضول اور اسراف ہے۔ اس کو بند کرو کیونکہ اسراف گناہ ہے، اور یہ رسم کسی امام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق نہیں ہے اب تم لوگ بتاؤ کہ خمینی صاحب تعزیہ کی رسم کا انکار کر کے شیعہ نہیں رہے یا کہ تم لوگ تعزیہ کی رسم اپنا کر بقول خمینی گناہ گار ٹھہرے۔ ہاں بولو اور جواب ضرور دو۔

سوال نمبر ۹ شیعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کیوں نہیں مناتے جبکہ وہ بھی اُنکے (شیعہ) نزدیک امام معصوم ہیں اور امام حسین نے اُنکے ہاتھ پر بیعت

کی تھی۔

سوال نمبر ۱۰ حضرت شہر بانو جو کہ امام زین العابدین اور حضرت علی اکبر شہید کی والدہ تھیں انکو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں انکے حکم کے تحت جہاد

ایران کے دوران گرفتار کر کے لونڈی بنا کر لایا گیا تھا جن کا عقد نکاح حضرت عمر نے حضرت علی کی موجودگی میں امام حسین سے کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بقول تمہارے حضرت عمر خلیفہ برحق ہی نہیں تھے تو پھر ان کے حکم کے تحت جہاد کیا؟ اور اگر وہ جہاد ہی صحیح نہیں تھا تو پھر حضرت شہر بانو کو لونڈی بنانا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا امام حسین سے ان کا عقد نکاح کرنا اسلامی حکم سے کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب دو، تو یا حضرت عمر کی خلافت کو صحیح مانو یا پھر اس نکاح کو معاذ اللہ غلط۔ مذکورہ واقعہ کے لیے شیعہ مذہب کی کتاب "اصول کافی بر حاشیہ مرآت العقول" کا صفحہ ۳۹۵ دیکھئے!

والحمد للہ رب العلمین

تمتے بالخیر